



سوال

اسے نہ بیجو جو تمہارے پاس نہ ہو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ادھار کی بیع کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں بیع و شراء کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سامان اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اس وقت ادھار کی بیع کے سلسلہ میں یہ طریقہ لوگوں میں رائج ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کسی بھی مسلمان کے لیے نقد یا ادھار کوئی سامان بیچنا جائز نہیں الا یہ کہ وہ اس کی ملکیت اور قبضہ میں ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

(لا تبح ما یس عندک) (سنن ابی داؤد البیہق ابی فی الریحل بیع ما یس عندہ ح: 3503)

"اس چیز کو نہ بیجو جو تمہارے پاس نہ ہو۔"

اسی طرح حدیث عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

(لا سلک سلف و بیع ولا یبح ما یس عندک) (سنن ابی داؤد البیہق ابی فی الریحل بیع ما یس عندہ ح: 3504)

"ادھار اور بیع حلال نہیں ہے اور نہ یہ حلال ہے کہ ایسی چیز بیجو جو تمہارے پاس نہ ہو۔"

ان دونوں حدیثوں کے پیش نظر خریدار کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت تک کوئی چیز نہ بیچے جب تک اسے اپنے قبضہ میں نہ لے لے کیونکہ امام احمد اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا اور ابن حبان و حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ زید بن ثابت سے مروی ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سامان کو اسی جگہ بیچا جائے جہاں سے اسے خریدا گیا ہوتا آنکہ تاجر اسے اپنے مقامات تک نہ منتقل کر لیں" [1] اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "صحیح" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی اس روایت کو بیان فرمایا ہے:

(تحدیث التماس فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتا معون جزا فی بیع یون ان یشوہ فی مکاتم حتی یوہ الی رعاہم) (صحیح البخاری البیہق ابی فی الریحل بیع ما یس عندہ ح: 2137)



"میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ غلہ کو اٹھل کی بیج کی صورت میں خریدتے تو انہیں اسی جگہ بیچنے پر مارا جاتا تھا یعنی وہ اسے اپنی جگہ منتقل کئے بغیر کیوں بیچتے ہیں۔" اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔

[1] سنن ابی داؤد، البیوع، باب فی بیع الطعام قبل ان یستوفی، حدیث: 3499 و مسند احمد: 5/191

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ

فتویٰ کمیٹی